

ہمیں بڑی خوشی ہے آپ اور آپ کا بچہ اس تعلیمی سال میں ہمارے پری کے پروگرامز میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کے بچے کے استاد اور منتظم آپکے بچے کو پُرلطف اور باہمی عمل کے اسباق کے ذریعے مدد دیں گے تاکہ تاحیات سیکھنے کے عمل کے لیے ضروری بنیادیں فراہم کر سکیں۔ ان کوششوں میں آپ کے بچے کی وسیع سماجی اور تعلیمی صلاحیتوں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی سال زبان کی نشوونما پر نظر رکھنا شامل ہے۔

سال کے شروع میں، نیو یارک شہر عالمی پری کنڈرگارٹن ضوابط کے مطابق، معائنہ پروگراموں (programs screen) کے ذریعے بچوں کی ممکنہ نشوونما اور تدریسی ضروریات پرکھی جاتی ہیں۔ آپ کے بچے کی یہ معائنہ ارلی انوینٹری اسکریننگ - ریوائزڈ (ESI-R®)، یا ایک مساوی نشوونما معائنہ کے پروگرام کے ذریعے اندراج کے 45 دنوں کے اندر کی جائے گی۔

اس معائنہ سے آپ کے بچے کے استاد کو آپ کے بچے کی نشوونما اور تدریسی ضروریات سمجھنے میں مدد ملی گی۔ اس معائنہ سے کنڈرگارٹن کی لیے تیاری کا تعین نہیں ہوگا۔ یہ قابلیت اور ہنرمندی (Gifted & Talented) پروگرام میں داخلے کے لیے آئی کیو (IQ) ٹیسٹ نہیں ہے۔ آپ کے بچے کا استاد آپ کو اس معائنہ کے نتائج میں شامل رکھے گا۔

ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ والدین سوالنامہ، جو آپ کے بچے کا استاد دے گا، اسے مکمل کر کے واپس کریں۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، براہ کرم اپنے بچے کے استاد سے یا اس پر [earlychildhood@schools.nyc.gov](mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov) رابطہ کریں

ابتدائی طفلی ذرائع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں - <https://www.schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning>

مخلص،



Josh Wallack

ڈپٹی چانسلر برائے ابتدائی طفلی تعلیم و طالب علم اندراج

